

نیو یارک شہر محکمہ تعلیم، بالغان تعلیم اور جاری تعلیم اکثر اوقات پوچھے جانے والے سوالات

- دفتر برائے تعلیم بالغان و جاری تعلیم (OACE) کی کلاسوں اور سہولیات تک رسائی کی اہلیت کون رکھتا ہے؟
ریاستہائے متحدہ ہائی اسکول مساوی (HSE) یا ڈپلومہ نم رکھنے والے نیویارک شہر میں رہائش پذیر 21 سال کی عمر سے بڑا کوئی بھی فرد کلاسوں کے لیے رجسٹر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مطلوبات نہیں ہیں۔ ریاستہائے متحدہ ہائی اسکول مساوی ڈپلومہ رکھنے والوں کے لیے طرز معاش اور تکنیکی تعلیم (CTE) کی کچھ کلاسوں میں محدود دستیابی ہے۔
- OACE کی کلاسوں کے لیے کوئی فیس ہے؟
انگریزی بحیثیت دوسری زبان (ESOL)، HSE، اور بنیادی بالغان تعلیم (ABE) کلاسوں کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ البتہ، طرز معاش اور تکنیکی تعلیم (CTE) کی کچھ کلاسوں کے لیے طلباء کا نصابی کتابیں اور مواد خریدنا مطلوب ہے۔
- اگر طالب علم کام کرتا ہے، مالی امداد حاصل کرتا ہے، یا نقل وطنی کے دستاویز نہیں رکھتا، کیا یہ اس کو OACE کی مفت سہولیات تک رسائی سے روکے گا؟
جی نہیں
- OACE کی کلاسوں لینے کے لیے کیا یہ لازمی ہے کہ طالب نے کم سے کم سطح کی تعلیم مکمل کی ہو؟
جی نہیں
- اگر میرے پاس ہائی اسکول ڈپلومہ یا کسی دوسرے ملک کی کالج کی سند ہے، کیا میں تعلیم بالغان کی کلاسیں لے سکتا ہوں؟
جی ہاں
- اگر میرے پاس ہائی اسکول ڈپلومہ یا ریاستہائے متحدہ کی کالج کی سند ہے، کیا میں تعلیم بالغان کی کلاسیں لے سکتا ہوں؟
جی نہیں، ریاستہائے متحدہ ہائی اسکول مساوی ڈپلومہ رکھنے والوں کے لیے طرز معاش اور تکنیکی تعلیم (CTE) کی کچھ کلاسوں میں محدود دستیابی ہے۔
- کیا طلباء کو اپنی شناخت کی تصدیق کرنے اور / یا کلاسوں میں اندراج کروانے کے لیے سوشل سیکیورٹی یا دستاویزات کی ضرورت ہے؟
ESOL, ABE اور HSE کلاسوں میں رجسٹر کرنے والے طلباء کو انکے سوشل سیکیورٹی نمبر فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو طلباء سندیافتگی کی جانب جانے والی CTE کلاسوں میں اندراج کرواتے ہیں ان سے سوشل سیکیورٹی نمبر یا ملازمت کی تقرری کے لیے شناخت کی تصدیق کرنے کے لیے دیگر دستاویزات کے لیے پوچھا جا سکتا ہے۔
- کلاسیں کہاں منعقد ہوں گی اور کلاسوں کی پیشکش کس وقت کی جائے گی؟
کلاسوں کی پیشکش 175 مقامات پر پانچوں روز میں کی جاتی ہیں۔ تمام طلباء کے لیے وقت کی پابندی کرنے کے لیے صبح، دوپہر، شام اور سنیچر کی کلاسوں کی پیشکش کی جاتی ہے۔
- اگر ایک طالب علم مین بیٹن میں کام کرتا ہے اور برونکس میں رہتا ہے تو کیا اس کو کسی ایک برو کا حوالہ دیا جا سکتا ہے؟
جی ہاں، اہل طلباء ان کے لیے سہل ترین مقام پر کلاسوں میں شرکت کر سکتے ہیں۔
- دفتر برائے تعلیم بالغان و جاری تعلیم کے ذریعے کون سی کلاسوں کی پیشکش کی جائے گی؟

• بنیادی تعلیم بالغان (ABE): بنیادی تدریس اور ہائی اسکول مساوی (HSE) تشخیصی امتحان کے لیے تیار۔

• دیگر زبانیں بولنے والوں کے لیے انگریزی (ESOL): ابتدائی سے نمودار سطور

• طرز معاش اور تکنیکی تعلیم (CTE): ایئرکنڈیشن / ریفریجریٹر کی مرمت کی کلاسیں، موٹر گاڑیوں کے میکانیک، عمارتوں کی دیکھ بھال، کیبل کی تنصیب، بڑھتی کام، کمپیوٹر کی تعلیم، کمپیوٹر کی مرمت، برقیاتی (الیکٹریکل) تنصیب، کھانا پکانا / تقریبات میں کھانا پیش کرنا (کیٹرنگ)، صحتیاتی طرز معاش، الیکٹریکل، میڈیکل بیلینگ، مائیکرو سافٹ آفیس، پلمبینگ اور ویب پیج ڈیزائن۔

• اگر کوئی پرنسپل، والدین ربط دہندہ، یا والدین اپنے K-12 کے اسکول کے مقام پر OACE کی کلاس کی پیشکش کرنا چاہتا ہو، تو وہ کس سے رابطہ کریں؟

ہر علاقے میں تعلیم بالغان کے پرنسپل ہیں۔ اسکول کے رابطے کی معلومات کو تلاش کرنے کے لیے سائٹ کے رجسٹریشن کے صفحے کو ملاحظہ کریں۔

• OACE کی کلاسوں میں طلباء کے اندراج کا کیا طریقہ کار ہے؟

ہر پرو میں خواندگی مراکز ہیں جہاں طلباء کلاسوں کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں۔ رجسٹریشن دوسرے مقامات پر بھی دستیاب ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہر طالب علم ایک داخلے کے انٹرویو سے گزرے، اس کے بعد ان کو پیشکش کیے جانے والے پروگرامز کی دستیابیوں کی وضاحت کی جائے۔ اہل طلباء ایک کیس مینیجر کے ساتھ ایک تشخیصی سیشن سے گزریں گے اور ان کی تقرری اس کے مطابق کی جائے گی۔

• کیا یہ داخلے کے انٹرویو کسی خاص وقت اور تاریخ کو کیے جاتے ہیں؟

جی ہاں یہ معلومات اس مقام پر دستیاب ہیں جس کو طالب علم نے داخلے کے عمل میں شرکت کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ طلباء براہ کرم داخلے کے جدول کی معلومات کے لیے پہلے رابطہ کریں کیونکہ جدول میں تبدیلی آسکتی ہے۔ برائے مہربانی ہمارے مقامات کے فون نمبر اور ہمارے پتوں کے لیے اس مقام کے رجسٹریشن کے مقامات کے صفحے کو ملاحظہ کریں۔

• بنیادی بالغان تعلیم (ABE) اور ہائی اسکول مساوی (HSE) کلاسوں کے درمیان کیا فرق ہے؟

بنیادی بالغان تعلیم کی کلاسیں طلباء کو HSE کلاسوں کے لیے تیار کرنے کے لیے مطالعے اور ریاضی کی کم تر سطوح سے خطاب کرتی ہیں۔ HSE کلاسیں طلباء کو ثانوی مقابلہ جاتی امتحانی تشخیص (TASC) کے لیے تیار کرتی ہیں۔

• ESL کی کلاس کیا ہے؟

ESL کی کلاسیں طلباء کی انگریزی زبان اور مطالعے کی صلاحیتوں کو تعمیر کرنے میں مدد کرتی ہیں۔

• تدریسی مراکز (لٹریسی زون) کیا ہیں؟

تدریسی مراکز کو نئے آنے والے خاندانوں، بالغ طلباء، اور برادری کے ارکان کے لیے مل بیٹھنے کے مرکز ہیں تاکہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ مرکز طلباء کو کلاسوں سے متعارف اور ان کی رہائشی، قانونی، طبی، روزگار اور دیگر ضروریات کے وسائل تک رسائی میں معاونت کرتے ہیں۔ لٹریسی زون اور ان کے وسائل خاندانوں کو نئی ثقافت میں گھلنے ملنے اور نئی زبان سیکھنے جیسی دقتوں سے نمٹنے میں مدد کرتے ہیں۔ چار لٹریسی زون ہیں مین ہیٹن، کوئنز، بروکلین اور بروئکس میں۔ مزید معلومات کے لیے اس سائٹ پر طالبانہ معاونت کے صفحے کو ملاحظہ کریں۔